

## گھروں میں چکنائی پر کنٹرول

### اسکا نتیجہ کیا ہو گا ؟

### آپ کیا کر سکتے ہیں؟

سب سے آسان بات جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ چکنائی کو گٹر میں نہ جانے دیں۔

◆ چکنائی کبھی بھی باورچی خانے کے سنک یا بیتالخلا میں نہ بھانیں

◆ چکنائی اور بچا ہوا کھانا کوڑا کرکٹ والے ڈبے یا لفافے میں ڈالیں۔

◆ چکنائی گاربیج ڈسپوزل میں نہ ڈالیں۔ یہ صرف بڑے ٹکڑوں کو چھوٹا کرتا ہے مگر چکنائی کو نیچے جانے سے نہیں روکتا۔

◆ چھاننی کے استعمال سے کھانے کے زرے اور دوسرے ٹھوس اجسام کو روکیں۔

◆ اپنے دوستوں اور ہمسایوں سے گٹر میں چکنائی کے مسئلہ پر بات کریں اور بتائیں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔

چکنائی عام طور پر سنک میں انڈھیل دی جاتی ہے کیونکہ گرم کی ہونی چربی اور کھانے کا تیل مائع ہونے کی وجہ سے انڈھیلے جا سکتے ہیں۔ یہ بظاہر نقصاندہ نہیں لگتا لیکن جب یہ سیال ٹھنڈا ہوتا ہے تو چکنائی ٹھوس شکل اختیار کر کے نالیوں میں جمتی چلی جاتی ہے۔ یہ جمع شدہ ٹھوس چکنائی پانیوں میں پانی کے گزرنے میں روک بنتی ہے۔

اس کا یہ اثر ہو سکتا ہے:

◆ گٹر کا گند آپ کے گھر میں واپس آنا۔

◆ اپنے خرچ پر گھر کی ناخوشگوار اور مہنگی صفائی۔

◆ گٹر کا گند پارک، صحن اور محلہ میں ابل پڑنا۔

◆ بیماری پیدا کرنے والے جراثیم سے امکانی راستہ۔



◆ مقامی محکمہ نکاس کے لیے اضافی خرچ جسکی وجہ سے خریدار کے لیے اضافی بل۔

ہر سال مقامی محکمہ کافی وقت اور رقم ان بند پانیوں کو ٹھیک کرنے پر لگاتی ہے جو گھروں سے پانی لاتی ہیں۔

ترجمہ: اظہر میاں

چربی، تیل اور چکنائی آپ کے گٹر کے لیے بہت بڑا مسئلہ کر سکتے ہیں۔ گٹر کا پانی واپس آنے پہ آپکے گھر، صحت اور ماحول کو خراب کرنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ چکنائی گٹر کے پانی کو روکنے کا باعث بنتی ہے اور یہ چکنائی گھریلو نالیوں میں بہتے ہوئے پانی سے آتی ہے۔

### چکنائی کہاں سے آتی ہے؟

چربی، تیل اور چکنائی کھانا پکانے کے نتیجہ میں ہوتے ہیں اور قدرتی طور پر مختلف کھانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ چکنائی جانور کی چربی اور کھانے کے تیل کے لیے عام اصطلاح ہے۔ یہ ان چیزوں میں پائی جا سکتی ہیں:

◆ گوشت کی چربی

◆ سور کی چربی

◆ کھانے کا تیل

◆ مکھن اور مارگریں

◆ مون

◆ کھانے کے ٹکڑے

◆ بیگری کی اشیا

